

کیا آپ گرمیوں کے لیے تیار ہیں؟

اب اپنی اور اپنے گھر والوں کی صورتحال چیک کرنے کا وقت ہے تاکہ آپ لوگ
ان گرمیوں میں محفوظ رہتے ہوئے پانی کی سرگرمیوں کا مزہ لے سکیں۔

ممکنہ خطروں کو سمجھنے اور خطروں کے آثار پہچاننے سے آپ کا گھرانہ پانی کے قریب
سمجھداری سے فیصلے کرنے کے قابل ہوگا۔

ممکنہ خطروں کا علم
حاصل کریں



سوئمنگ سیکھنے کے لیے کوئی بھی عمر بہت چھوٹی (یا بہت بڑی) نہیں ہوتی۔ اس موسم بہار
میں اپنے مقامی سوئم سکول میں ایسے تیار کریں جو محفوظ اور پراعتماد طریقے سے تیر
سکتے ہوں۔

سوئمنگ کی کلاسوں میں
داخلہ لیں



CPR اور First Aid Course میں داخلہ لینا ان گرمیوں میں اپنے گھرانے اور کمیونٹی کو
محفوظ رکھنے کا بہت اچھا طریقہ ہے۔ آج ہی کورس میں داخلہ لیں!

جانیں بچانے کی مہارت تازہ
کریں



اپنے گھر کو تیار کرنے کے لیے Royal Life Saving کی ویب سائٹ سے واٹر سیفٹی گائیڈ
ڈاؤن لوڈ کریں۔

اپنے گھر کو گرمیوں کے لیے
تیار کریں



گرمیوں کے لیے تیاری کے طریقے کے متعلق مزید
معلومات کے لیے یہ کوڈ سکن کریں۔



drowningprevention.org.au
#AreYouSummerReady



ROYAL LIFE SAVING
NSW | ACT | TAS